

## Translation

صیرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے اس میں بہت سے پھولے اور درخت  
ہیں۔ بہار کے موسم میں لہنی رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ ان کی  
خوشبو اور گند پھیل جاتی ہے۔ شام کو باغ آدھیوں، عورتوں اور  
بچوں سے بھر جاتا ہے لڑکے لڑکیاں اور بچھرت ہیں اور لطف اٹھاتے  
ہیں۔ یہ باغ صبح دوڑتے ہیں۔ اب وہ یہاں ہیں اور دوسرے  
لہنی و باغ کے دوسرے کرتے ہیں۔ شام میں بھی باغ میں  
سیر لے جاتا ہوں۔ بہت سے عالی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

There is a **garden** in front of my house. There  
In the park, there are many trees and plants.  
Many **Flowers of many colours / Colourful**  
**flowers** bloom in Spring  
Season. **Their** fragrance spreads everywhere.  
In <sup>the</sup> evening, park is full from **of** male, female  
and children. People **wander about** here and there  
to enjoy. **C** children run in the park **from one part of the**  
they are here **and on** at the other moment they **go**  
seems **in** at the other corner. I also **went**  
to park every evening. There is **Many gardeners**  
to look after park.

You are allowed to submit only one question in one pdf. The remaining questions may be submitted in separate pdfs.

انسان کے مستقبل و قیامت اس کے بعد ہے۔ آپ اس میں جہد انسان بالکل ناامید ہو جاتا ہے۔ اسے ہر طرف اللہ کی عیب دہی اندر عیب نظر آتا ہے اور اس کی حقانیت کی سبک دہی ہو جاتی ہے۔ یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو گی وہ اس عزم و ہمت کا نتیجہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی ہمت نہ پارتے بلکہ مردانہ وار نا کامیوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک روز ضرور کامیابی عطا کریں گا۔

In the ups and downs of life people face such moments where he completely lose hope. He see no hope anywhere. and he lose power to face. It is against human dignity. The progress in the world is a result of of his determination and perseverance which Allah gifted human. People should never lose hope. Manly he face <sup>that</sup> such failures. One day Allah will give success.